



بهش: کوردی

کۆلیژ : پهروهدهی مهخمور

زانکۆی : سهلاحه‌دین - ههولێر

بابهت: دهرونزانی گهشه

کۆرسی : دووهم

ناوی مامۆستا : م.ی. شیرین شادان جمیل

سالی خویندن: 2023 / 2024

پەرتووكى كۆرس

Course Book

1. ناوى كۆرس	دەروونزانى گەشە
2. ناوى مامۇستاي بەر پەرس	م.ى. شىرىن شادان جەمىل
3. بەش/ كۆلىژ	كوردى
4. پەيوەندى	shireen.jameel@su.edu.krd
5. يەكەى خويندىن (بە سەعات) لە ھەفتە يەك	3 كاتزىمىر (2 كاتزىمىر تىۋرى + 1 كاتزىمىر پراكتىكى)
6. ژمارەى كاركردىن	12 كاتزىمىر
7. كۆدى كۆرس	
8. پروفائىلى مامۇستا	<p>*پروانامەى بكالورىوس 2006-2007</p> <p>*ولە 2007-2009 سەپەرشتى كومىپوتەر لە 18 ى شوبات</p> <p>*2009-2011 لە كۆلىژى زمان لە يەكەى كۆمىپوتەر وەكو وانەبىژ وانەى كۆمىپوتەر م وتۆتەو.</p> <p>*2014-2016 لە كۆلىژى پەروەردەى بنىات سەپەرشتى(مشريف) يەكەى تاقىگە بووم</p> <p>*لە 2017-2018 قوتابى ماستەر لە زانكۆى سەلاھەددىن /كۆلىژى پەروەردە -</p> <p>*پروانامەى ماستەرلە (رېگاكانى وانەوتنەو). 2019</p> <p>*دامەزاندنم وەكو مامۇستاي يارىدەر لە كۆلىژى پەروەردەى مەخمور</p>
9. وشە سەرەكەكان	گەشە " پى گەيشتن " مندال " ھەرزەكار " كاملى.....ھتد "
10. ناوەرۆكى گشتى كۆرس:	<p>• باس لە بابەتى دەروونزانى گەشە دەكەين كە دەروونزانى گەشە ئەو لقەيە لە دەروونزانى كە گرنكى بە گەشەكردىن مرقۇ دەدات وە دواتر قۇناغى پيش چوونە خويندىنگا ئىنجا قۇناغى خويندىن سەرەتايى و دواتر قۇناغى ھەرزەكارى و كاملى و لە لوتكەو ترۇپكى قۇناغەكانىش قۇناغى بەسالچوونە . ھەريەك لە ئەو قۇناغانە تايبەتمەندىتى خۇى ھەيە و لەھەر قۇناغىكدا ژمارەيەك گۇرانكارى روودەدەن كە جىاي دەكاتەو لە قۇناغەكانى تر وە ئەو زانىارى و شارەزايانەى كە ئىستا لە بەردەم دىدو دەستى خوينەردا ھەيە دەربارەى مندال و ھەرزەكار و كاملى و بەسالچوون ، سايكۇلۇژىاي گەشەكردىن , لە كاتىكى دىارى كراو پەيدا نەبوو، بەلكو بە چەندەھا قۇناغدا تىپەر بوو وە سەدھا فەيلەسوف و زانا و نوسەر بە بۇچوون و توپژىنەوەكانىان بەشدارى دەولەمەند كرىنى ئەم بوارە گرنگەيان كرىوو .</p>

وہ باسی چہ مکہکانی گہشہ دکھین کہ بریتین لہ گہشہ — گہشہ سہندن- پیگہیشتن وہ ہرودھا باسی
 گرنگی سایکولوزیای گہشہ دکھین کہ بریتین لہ مندال دوی لہ دایک بوون لاوازترین و بی دہسہ لاتترین
 بوونہ و ہرودھو ژیان و مانہ و ہدی پھیوہستہ بہ خزمہ تگوزاری کہسانی چوار دہوری. دریزی قوناعی مندالی
 مرؤف بہ بہراوورد بہ قوناعی مندالی بوونہ و ہرودھکانی تر دریزترین قوناعہ . دیاری کردنی پیدایستی
 ہر قوناعیک (پیش لہ دایک بوون ، دوی لہ دایک بوون) . دہست نیشان کردنی مندالی دواکہوتو و
 خاومن گرفت و ہولڈان بؤ چارہ سہر کردنیان. وہ ناشنا کردنی قوتابیان بہ نہو قوناعانہی سایکولوزیای
 مندال پیدای تپیہ پیوہ تا گہشہی کردوہ .

11. نامانجہکانی کورس

لہ نامانجہکانی نہم کورسہ ناشنا بونی قوتابیان بہ بابہتی دہرونزانی گہشہ وہ بہ مہبہستی تیگہیشتنیان
 و سودوہرگرتن لہم بابہتہ . وہ قوتابی دہتوانیت زانیاری بہ دہست بیئت دہربارہی دہرونزانی گہشہ و
 تاییہتمہندیہکانی وہ زانیاری بہ گرنگی نہو قوناعانہی سایکولوزیای مندال و ہرزہکار پیدای تپیہ پیوہ تا
 گہشہی کردوہ. وہ ناشنا بوون بہ کہسایہتی دہروون دروست و نہخوش. وہ ہرودھا کومہلیک ہؤکار
 ہہیہ نہگہر رچا و نہکری کاریگہری ترسناکی بہسہر گہشہی مندال و ہرزہکار دہبی و گرفتہ بؤ دروست
 دہکات و ہک (بشیویہ کومہلایہتی و ہکو درؤ- دزیکردن- شہرمکردن- پشیویہ بایلوژیہکان و قسہکردن و ہکو-
 زمانگرتن — ترس-.....) باس لہ ہؤکاری دروست بوون و چارہسہری دہکھین بؤ نہوہی بؤیان رؤن
 بہتہوہ کہ لایہنی دہروونی چہند گاریگہری ہہیہ لہسہر گہشہکردن

12. نہرکہکانی قوتابی

- لیہرہ دہبیٹ دہوری قوتابی زؤر بہ گرنگ سہیر بکریٹ و فہرامؤش نہکریٹ وہ نامادہبوونی قوتابی
 لہ وانہکہ بہ نہرکیکی گرنگ دادہنریٹ چونکہ پیویستی بہ نووسینی تیبینی ہہیہ. وہ ہرودھا
 نامادہ بوونی قوتابیان لہ تافیکردنہ و ہکان. نامادہ بوونی لہ وانہکہو , و ہرودھا نامادہکردنی چالاکیک لہ
 شیوہی راپورت بہ داتاشو پاوہر پؤینت راہینان بہ گروپ و راپورتہکھی لہ برنامہی classroom بہ شیوہی فیڈیو
 دادہبہزینن و پیشکہشکردنی بہ شیوہی سیمینار..

13. ریگہی وانہ ووتنہوہ

- 1 بؤ زیاتر روونکردنہوہی بابہتہکان وہ زیاتر فیربوونی قوتابی , بہکارہینانی
- ★ ریگای شہرح کردن (گریقہ الشرح).
 - ★ ستراتیژیہی فیربوونی چالاک
 - ★ ستراتیژیہی پرسیار و ولام (گریقہ الاسئلہ واستجواب).
 - ★ ستراتیژیہی ہاریکاری (ہاوکاری).
 - ★ ستراتیژیہی خشتہی فیربوون K-W-L
 - ★ ستراتیژیہتی من کیم

<p>★ ستراتيجيه تى يارى</p> <p>★ ريگايه كان به كارده هينرپت به پى ي پيوست بابته كه، وه بو به شدارى كردنى قوتابيان له وانه كه و زياتر روون كردنه وهى بابته كه وه تى گه شتى قوتابيان، چ هند بابته كك به شى وهى ئؤنلاى وانه كه هى ده خوئى نى</p>	
<p>14 . سيسته مى هه لسه نگاندى</p> <p>تاقى كردنه وهى وه رزى يه كه م ————— 15 نمره</p> <p>تاقى كردنه وهى وه رزى دوو م ————— 15 نمره</p> <p>كيوز راپورت سيمناره كان 10 نمره</p> <p>كوى گشتى ده كاته ————— 40 نمره</p> <p>كو تايى كورس ————— 60 نمره</p>	
<p>15. دهر نه نجامه كانى فيربوون</p> <p>له دهر نه نجامه كانى فيربوون قوتابى زانيارى وشاره زايه كى ته واوى ده بيت دهر باره ي سايكولوزيائى گه شه ههروه ها ئاشنابوونى قوتابى به گرنگى بابته كه وه زانينى هه ستيارى نه م بابته بو مندال و هه رزه كار .</p>	
<p>16. ليستى سه رچاوه</p> <p>1- قه ره چه تانى ، كريم شريف (2009)، سايكولوزيائى گه شه (منال و هه رزه كار) ، زانكوى سليمانى</p> <p>2- عه بباس مه حموود (2012)- دهر وه زه يه كى بو سايكولوزيائى گه شه مندالى- هه رزه كارى- پيرى</p> <p>3- الزعبى ، مروان گاهر (2018) ، دهر وازه يه ك بو دهر وونزانى ، هه ولير ، بازارى زانست بو كتيب</p> <p>4- سامى، محمد ملحم (2004) علم نفس النمو دوره الحياه الانسان، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن</p> <p>5- سامى، محمد ملحم (2004) علم نفس النمو دوره الحياه الانسان، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن</p>	
17.	بابته كان
1	پيشه كى
2	پيناسه ي چه مكه كانى دهر وونزانى (گه شه - گه شه سه ندى - پيگه شتى)
3	گرنگى سايكولوزيائى گه شه
4	نه و لايه نانه ي سايكولوزيائى مندال گرنگى پنده دات
5	هوكارى خو پندى دهر وونزانى گه شه چيه ؟

6	گرنگى خويىندى دەروونزانى گەشە (مندال و ھەرزەكار)
7	ئەو قۇناغانەى سايكۇلۇژيا مندال پىدا تىپەريوۋە تا گەشەى كردوۋە
8	قۇناغى پىش بە زانستى بوون
9	پرانسىيەكانى گەشە
10	گەشەى عەقل
11	گرفتە دەروونى و بايۇلۇژيەكانى مندال
12	پشيوپيە دەروونى و بايۇلۇژيەكانى مندال
13	پشيوپيەكانى فسە كردن (زمان گرتن) و چارەسەركردنى زمانگرتن
14	پشيوپيەكانى كۆمەلايەتبيەكان (درۆ- ھۆكارەكانى و چارەسەركردنى
15	شەرمكردن و گرنگتيرن ھۆكارەكانى شەرمكردن
16	دزىكردن و ھۆكارەكانى و چارەسەركردنى
17	پشيوپيەكانى ميزكردن- و چارەسەركردنى
18	ترس – ھۆكارەكانى و چارەسەركردنى
19	ھەست كردن بە جوانى و چۆنيەتى گەشە كردن لە قۇناغى منداليدا
20	دواكەوتن لە خويىندن و ھۆكارەكانى و چارەسەركردنى
21	كارىگەريپيەكانى دەستدرىژى سىكىسى لەسەر مندال
22	عينادى مندال و كەللەرەقى
23	چەند رينمايپيەكى پەروەردەيى بۇ داىكان وياوكان ومامۆستاين
24	چەند ساتىك بۇ مندالەكەت تەرخان بكە
25	پىناسەى ھەرزەكار – مندال – ھەرزەكار
26	مندال و ھەرزەكار كە چۆن لە جۆرى پەروەدەو خيزانى
27	ھەئسوكەوت و جوولەى ھەرزەكار
28	گۇرانكارپە ھەئچوونپيەكانى ھەرزەكار

29	ھەرزەكار و ھاوړپيەتې
30	كارىگەرى و گرنكى ھاوړئ
<p>19. تاقىكر د نه و هكان</p> <p>پ/ ئەم بۆشاپيانه‌ى لای خواره‌وه به پرگه‌ى گونجاو پرېكه‌ره‌وه :-</p> <p>1- قۇناغى دەست پى دهكات له كاتى له دايك بوون تا كۆتايى مانگى يه‌كه‌مى ژيانى شيره خورى</p> <p>پ/ وهلامى ئەمانه‌ى خواره‌وه بدهره‌وه</p> <p>1- گرنگترين پرانسيپه‌كانى گه‌شه‌كردن بۆميره؟</p> <p>2- نه‌و لايه‌نانه‌ى سايكۆلۆژيائى منداډ گرنكى پى ده‌دات بۆميره؟</p> <p>20. تىببى تىر</p> <p>قوتابيان ده‌توانن سوود وهرىگرن له سه‌رچاوه‌كانى دهره‌كى بۆ ده‌وله‌مه‌ندكردنى هزريان وگه‌شه‌سه‌ندنى مرؤپيان.</p>	